



جس نہ کوئی ایسا کتا رکھا جو نہ تو شکار کی غرض سے نہ ہو اور نہ ہی مال مویشی کی حفاظت کے لیے تو اس کے وجہ سے اس کے اجر سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہو جاتی ہے

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جس نہ کوئی ایسا کتا رکھا جو نہ تو شکار کی غرض سے نہ ہو اور نہ ہی مال مویشی کی حفاظت کے لیے تو اس کے وجہ سے اس کے اجر سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہو جاتی ہے“ سالم کہتے ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کرتے تھے: ”یا کھیتی کی حفاظت کرنے والا کتا“ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کھیتی باڑی والے آدمی تھے

[صحیح] [متفق علیہ]

کتے کا شمار گھٹیا اور گندے چوپایوں میں ہوتا ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے انہیں رکھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ ایسا کرنے میں بہت سے نقصانات اور خرابیاں ہیں مثلاً جس گھر میں کتا ہو اس سے ملائکہ کرام دور رہتے ہیں، اسی طرح اس سے دوسرے لوگ خوف اور ڈر کھاتے ہیں اور یہ نجاست اور ضرر رسانی کا سبب ہوتا ہے اور اسے رکھنا کم عقلی کی علامت ہے جو شخص کتا پالتا ہے اس کی وجہ سے روزانہ اس کے اجر کا ایک بہت بڑا حصہ کم ہو جاتا ہے سمجھانے کے لیے دو قیراط کے دیا گیا ہے، جس کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ یہ شخص کتا رکھے کر اور ایسا کرنے پر مصر ہو کر اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تاہم اگر ضرورت ہو تو تین مقاصد میں سے کسی ایک کے لیے اسے رکھا جا سکتا ہے: اول: بھیڑیے اور چوروں کے اندیشہ کے پیش نظر مویشیوں کی حفاظت کے لیے دوم: کھیتی کی حفاظت کے لیے سوم: جب اس کے رکھنے کا مقصد شکار کرنا ہو ان منافع کے لیے کتا رکھنا مباح ہے اور ان کی بنا پر وہ شخص ملامت کا مستحق نہیں ہوتا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2994>